

October 22, 2020

عزیزی اہل خانہ،

نیو یارک شہر کی COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی مسلسل کوشش کے حصے کے طور پر اور ہماری برادری کی صحت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، ہمارے اسکول میں عملے اور طلباء کی COVID-19 کی ٹیسٹنگ اس وقت سے لے کر تعلیمی سال کے اختتام تک ہر ماہ میں ایک بار کی جائے گی۔ ہمیں مطلع کیا گیا ہے کہ ٹیسٹنگ فراہم کنندہ اگلے ہفتے تک ہمارے اسکول میں ہوں گے۔ براہ کرم نوٹ کریں صرف نیو یارک شہر پبلک اسکولوں میں گریڈ 1-12 کے طلباء ٹیسٹ کیے جائیں گے۔

مورخہ 29 ستمبر، 2020 کے خط جس پر نیو یارک شہر اسکولوں کے چانسلر Richard Carranza، نیو یارک شہر ٹیسٹ بمعہ ٹریس کوریس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور نیو یارک شہر محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت کے کمشنر ڈاکٹر Dave Chokshi نے مشترکہ طور پر دستخط کیے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ ٹیسٹ آسان، فوری اور محفوظ ہے۔ ایک "چھوٹا پھایا" (جیسے کہ ایک کیو ٹپ) جسے ناک کے سامنے کے حصے میں پانچ یا دس سیکنڈز کے لیے اندر ڈالا جائے گا۔ اس تعلیمی سال کے آخر تک، ممکن ہے کہ اس ٹیسٹ کو ایک لعاب دہن (ٹھوک) کی ایک چھوٹی مقدار کے ذریعے کیا جاسکے گا۔

صرف وہ طلباء اور اسکول پر مبنی عملے کے وہ ارکان ٹیسٹ کروانے کے لیے اہل ہوں گے جن کے اجازت کے دستخط شدہ فارم جمع کروائے جا چکے ہیں (schools.nyc.gov/covidtesting)۔ اگر آپ کا بچہ آرام دہ محسوس نہیں کرتا یا اس طریق کار کے دوران کسی بھی وقت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو ہم آپ کی کسی بھی ممکنہ تشویشات کو دور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کریں گے تاکہ آپ کا بچہ مستقبل کی ٹیسٹنگ میں شرکت کرنے میں آرام دہ محسوس کرے۔

اگر آپ کے بچے کا ٹیسٹ اسکول میں کیا جاتا ہے تو ٹیسٹ کرنے کے طریق کار، اور آپ نتائج کو کس طرح موصول کریں گے کے بارے میں معلومات کو آپ کے بچے کے ساتھ گھر بھیجا جائے گا۔ ٹیسٹنگ کے زیادہ تر نتائج 48 گھنٹے کے اندر دستیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے بچے کا COVID-19 کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آجاتا ہے تو ٹیسٹ فراہم کنندہ ایک ٹیلیفون کال کے ذریعے آپ سے رابطہ کرے گا اور نیو یارک شہر ٹیسٹ اور ٹریس کوریس آپ کے خاندان کے لیے وسائل اور معاونت فراہم کرنے کے لیے رابطہ کرے گا۔

ٹیسٹ کرنے کے اس طریق کار کے دوران اگر اسکولی برادری کے کسی بھی رکن کا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آجاتا ہے تو ہماری اسکول برادری ذیل ویب سائٹ پر صحت اور تحفظ کے حصے میں خاکہ کش کردہ رہنمائی خطوط کی پابندی کرنا جاری رکھے گی (schools.nyc.gov/RTShealthsafety)۔

ہم اسکول برادری کو محفوظ اور صحت مند رکھنے میں آپ کی شراکت اور عہد بستگی کی بے حد قدر کرتے ہیں۔

بخلوص،

Peter Leddy, Principal